

اقلیتی ارکان اسمبلی کے حلقہ ہائے نیابت سے متعلق آئینی ترمیم کی تجویز مسترد کر دی گئی۔

قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی اقلیتی نشستوں کی حلقہ بندی کے بارے میں آئینی ترمیم کے لیے سبھی رکن قومی اسمبلی جناب طارق۔ سی۔ قیصر نے ایک تجویز پیش کی تھی جو قومی اسمبلی نے کثرت رائے سے مسترد کر دی ہے۔ وفاقی وزیر مملکت برائے اقلیتی امور نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا کہ "حکومت اس معاملے پر خود ایک بل لانا چاہتی ہے۔" (روزنامہ جنگ، راولپنڈی۔ ۱۵ اگست ۱۹۹۲ء)

"شراب مسیبت میں بھی حرام ہے مگر۔۔۔" سوترا

امتناع شراب ایکٹ نافذ ہونے کے باوجود ملک میں شراب کی خرید و فروخت جاری ہے۔ اس صورت حال پر قومی اسمبلی کے متعدد ارکان نے جناب ہاؤد اقبال چیمہ کی پیش کردہ تحریک پر بحث میں حصہ لیا۔ بحث میں حصہ لینے والوں نے شراب کے بارے میں اسلامی احکام پر روشنی ڈالی اور اس امر پر زور دیا کہ شراب کی خرید و فروخت کے لیے کوئی چور دروازہ نہیں ہونا چاہیے۔ امتناع شراب ایکٹ پر پورے طور پر عمل درآمد نہ ہونے پر انہوں نے حکومت کو مورد الزام ٹھہرایا۔

بحث میں حصہ لینے والے ارکان اسمبلی میں دینی سیاسی جماعتوں کی نمائندگی زیادہ تھی۔ اس موقع پر وفاقی وزیر مملکت برائے اقلیتی امور جناب بیٹر جان سوترا نے کہا کہ "امتناع شراب ایکٹ نافذ ہے۔ مسیبت میں بھی شراب حرام ہے اس لیے نیا قانون یا نئی پابندی لگانے کے بجائے لوگوں کو شراب نوشی سے بچنے کی تبلیغ کی جائے کہ وہ اسے استعمال نہ کریں۔ میں اگرچہ اس کی حمایت کرتا ہوں مگر غیر مسلموں کو جو تحفظ حاصل ہے، اس کو نہیں پھینکنا چاہیے۔" (روزنامہ جسارت، کراچی۔ ۱۲ اگست ۱۹۹۲ء)

امتناع شراب ایکٹ میں غیر مسلموں کو دی گئی چھوٹ کے حوالے سے پاکستان اقلیتی ویلفیئر ایسوسی ایشن کے عہدہ داروں نے واضح کیا کہ "مسیحوں کے لیے شراب بند کر دی جائے۔ مسیحی مذہب میں شراب جائز نہیں۔۔۔ شراب کے پرمت ہمارے لیے باعث بدنامی ہیں۔ دوسری طرف پولیس کا ناجائز تنگ کرنا باعث شرمندگی ہے۔" (روزنامہ پاکستان، لاہور۔ ۱۳ اگست ۱۹۹۲ء)